



سوال

کیا شادی کی تقریب کے لیے گانے والی عورت لانا جائز ہے؟ اپنے اور اس کے مابین کچھ شرائط کے ساتھ کہ فحش اشعار نہیں گائے گی، اور صرف اپنے ساتھ دف لائے، اور باہر لاؤڈ سپیکر نہیں لگائے جائیں گے؟

جواب

الحمد للہ

اگر تو معاملہ بالکل اسی طرح ہو جیسا کہ سوال میں ذکر کیا گیا ہے کہ شرعی شرط کو مد نظر رکھتے ہوئے شادی کی تقریب میں دف بجانے کے لیے کسی بجانے والی عورت کو لایا جائے اور اسے اس کی اجرت دی جائے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں
شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں:

اور رہا مسئلہ دف بجانے والیوں کو مال دینے کا تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں؛ کیونکہ یہ ایک مباح اور جائز عمل پر ہے، لیکن طلبہ سرنگی بجانے والیوں کو اجرت دینی جائز نہیں؛ کیونکہ یہ حرام کام پر ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو فرمان ہے کہ:

"جب اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو حرام کیا تو اس کی قیمت بھی حرام کر دی"

ابن جان حدیث نمبر (4938) علامہ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے غایۃ المرام (318) میں اسے صحیح قرار دیا ہے انتہی
دیکھیں: لقاء الباب المفتوح (580/1)، اور اللقاء الشہری (235).

شیخ محمد بن ابراہیم رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں:

اظہار نکاح کے لیے شادی کی تقریبات میں دف بجانا مشروع ہے، اور اگر یہ دف بجانا کسی اور فساد کا باعث بنے تو پھر یہ ممنوع ہے انتہی
دیکھیں: مجموع الفتاویٰ (218/10).

اور اس میں دف بجا کر رقص کرنا اور ناچنا بھی شامل ہے

شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں:

"رقص کرنا اور ناچنا مکروہ ہے، اور خاص کر جب اس سے فتنہ کا خدشہ اور ڈر ہو تو جائز نہیں، کیونکہ بعض اوقات بچنے اور رقص کرنے والی رقصہ لڑکی نوجوان اور خوبصورت بھی ہوتی ہے جس کا رقص شہوت انگیزت کا باعث ہوتا ہے، حتیٰ کہ عورتوں میں بھی". انتہی

دیکھیں: لقاء الباب المفتوح (580/1).



مزید تفصیل کے لیے سوال نمبر (5000) اور (9290) کے جوابات کا مطالعہ ضرور کریں

اور اس میں ادا کی جانے والی اجرت کا اسراف اور فضول خرچی میں بھی شامل ہے :

اس دفن بجانے والی عورت کو ادا کی گئی اجرت معقول ہونی چاہیے، جو اسراف اور فضول خرچی سے بعید اور دور ہو، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسراف و فضول خرچی سے منع کرتے ہوئے فرمایا :

اور تم اسراف و فضول خرچی نہ کرو، بلاشبہ اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا الا انعام (141).

اور ہو سکتا ہے یہ اسراف اور فضول خرچی شادی میں سے برکت ہی ختم کر ڈالے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ :

"عورتوں میں سے سب سے زیادہ برکت کا باعث وہ عورت ہے جو خرچ کے حساب سے آسان ہو" یعنی کم خرچ

مسند احمد حدیث نمبر (24595) امام حاکم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا اور امام ذہبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی تصحیح کا اقرار کیا ہے، اور علامہ عراقی نے "تخریج احادیث الاحیاء" میں اس کی سند کو جید کہا ہے

اور عیثی رحمہ اللہ تعالیٰ نے مجمع الزوائد (7332) میں اور علامہ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے السلسلۃ الضعیفۃ (1117) میں اسے ضعیف قرار دیا ہے

واللہ اعلم .

اسلام سوال و جواب

52804